

بچپن میں آمد کے لیے مؤخر شدہ کارروائی (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) کو ختم کیے جانے کی صورت میں، آپ کو اپنے Medicaid کے کوریج کے لیے NY State of Health کے ذریعہ درخواست دینے یا اس کی تجدید کرنے کے متعلق کیا جاننا ہوگا؟

**1. DACA کو ختم کیے جانے سے، Medicaid کے لیے آپ کی PRUCOL حیثیت میں تبدیلی نہیں ہوگی۔**

ریاست نیو یارک کے قانون کے مطابق، DACA حیثیت کے حامل کسی فرد یا وہ لوگ جن کے DACA کی حیثیت کو ختم کیا گیا ہے، وہ PRUCOL یعنی قانون کے رنگ کے تحت مستقل رہائش، کے طور پر معروف امیگریشن کے زمرہ کے تحت ریاست کے ذریعہ مالی معاونت کیے جانے والے Medicaid کے اہل ہو سکتے ہیں۔

**2. آپ کے DACA کی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد اپنی Medicaid کی تجدید یا Medicaid کے لیے درخواست دینے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟**

1-855-355-5777، ٹی ٹی وائی : 1-800-662-1220 پر کسٹمر کیئر کو کال کریں یا اپنی کمیونٹی میں بالمشافہ اسسٹر ملاقات کریں۔ نمائندہ یا اپنے اسسٹر کو یہ بتائیں کہ آپ DACA حیثیت کے حامل ہے یا تھے۔ آپ کی ملازمت کے جواز کا کارڈ، چاہے یہ ناکارہ ہو گیا ہو، آپ کی حیثیت کے ثبوت کے طور پر قبول کیا جائے گا۔

**3. کئی زبانوں میں مدد دستیاب ہے**

- ہمارے فون پر آپ سے بات کرنے والے نمائندے کئی زبانیں جانتے ہیں۔ اگر وہ آپ کی زبان میں بات نہ کرتے ہوں تو وہ آپ کے لیے ایک ترجمان حاصل کریں گے۔
- ہم نے آپ کی کمیونٹی میں آپ کی زبان بولنے والے اسسٹرز کو تربیت دی ہے۔
- اگر آپ چاہیں تو وہ آپ کی رہائشی جگہ پر آ سکتے ہیں۔

**4. آپ کے ذریعہ ہمیں دی جانے والی معلومات کا اشتراک نہیں کیا جائے گا**

- آپ NY State of Health اور ان کے اسسٹرز کو جو کچھ بتاتے ہیں، اسے راز داری میں رکھا جائے گا۔
- کسی صحت کے منصوبہ میں اندراج کے لیے آپ کے ذریعہ ہمیں دی جانے والی معلومات کو کسی دوسرے کے ساتھ اشتراک نہیں کیا جائے گا۔

### **NY State of Health کے بارے میں**

نیو یارک نے اپنا صحت کے منصوبہ کے بازار NY State of Health کو اکتوبر 2013 میں شروع کیا۔ اس بازار کا ایک ہی جگہ پر صحت کے بیمہ کی خریداری کا تجربہ اعلیٰ معیار کے جامع صحت کے پلانز کی پیش کش کرتا ہے۔ NY State of Health ایک واحد جگہ ہے، جہاں صارفین کوریج کے لیے پرمیم رعایت یا ٹیکس کریڈٹس کے ذریعہ ادائیگی کے لیے مدد حاصل کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں اہل نیویارک کے شہری اس بازار کے ذریعہ سال بھر میں Medicaid، چائلڈ ہیلتھ پلان اور ایسیٹیل پلان میں اندراج کر سکتے ہیں۔ NY State of Health مارکیٹ پلیس سے متعلق مزید معلومات کے لئے براہ کرم اس ویب سائٹ کا دورہ کریں <https://nystateofhealth.ny.gov> یا 1-855-355-5777، ٹی ٹی وائی: 1-800-662-1220 پر کسٹمر سروس کو کال کریں یا داخلہ کے اسسٹر کو تلاش کریں۔